



1.1 تعارف (Introduction)



ہم نے چھٹی کلاس میں مکمل اعداد اور صحیح اعداد کے بارے میں پڑھا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ صحیح اعداد نمبروں کے ایک بڑے مجموعے کو تشکیل دیتے ہیں جن میں مکمل اعداد اور منفی اعداد شامل ہوتے ہیں۔ آپ اور کون سے فرق کو جانتے ہیں جو مکمل اعداد اور صحیح اعداد کے بیچ ہوتا ہے؟ اس سبق میں ہم صحیح اعداد کے بارے میں مزید پڑھیں گے اور ان کی خصوصیات و اعمال کے بارے میں دوبارہ غور کریں گے اور دہرائیں گے جو ہم نے گذشتہ کلاس میں سیکھی ہیں۔

1.2 تجدید (Recall)

ہم جانتے ہیں کہ صحیح اعداد کو عددی خط پر کس طرح ظاہر کرتے ہیں۔ کچھ صحیح اعداد نیچے دیے گئے عددی خط پر ظاہر کیے گئے ہیں۔




کیا آپ نشاندہی کئے گئے صحیح اعداد کو بڑھتی ترتیب میں لکھ سکتے ہیں؟ ان اعداد کی بڑھتی ترتیب ہے۔

—5, -1, 1.

ہم نے 5- کو سب سے چھوٹے عدد کے طور پر کیوں منتخب کیا؟


درج ذیل عددی خط پر کچھ صحیح اعداد کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان صحیح اعداد کو گھٹتی ترتیب میں لکھیے۔



ان صحیح اعداد کی گھٹتی ترتیب ہے۔ —14, 8, 3,—

اوپر دیے گئے عددی خط پر چند صحیح اعداد دکھائے گئے ہیں ہر ڈاٹ کے لیے مناسب اعداد لکھیے۔

کوشش کیجیے:



اپنے جواب کی جانچ کرنے کے لیے ان اعداد کو عددی خط پر دکھائیے۔
صحیح اعداد کی جمع اور تفریق ہم گزشتہ جماعت میں کر چکے ہیں۔ درج ذیل بیانات کو پڑھیے۔

کسی عددی خط پر جب ہم

- (i) ایک مثبت صحیح عدد کو جوڑنے کے لیے ہم دائیں جانب بڑھتے ہیں
- (ii) ایک منفی صحیح عدد کو جوڑنے کے لیے ہم بائیں جانب بڑھتے ہیں
- (iii) ایک مثبت صحیح عدد کو گھٹانے کے لیے ہم بائیں جانب بڑھتے ہیں
- (iv) ایک منفی صحیح عدد کو گھٹانے کے لیے ہم دائیں جانب بڑھتے ہیں

بنائیے کیا درج ذیل بیانات درست ہیں یا نہیں۔ غلط بیانات کو درست کیجیے۔

- (i) دو مثبت صحیح اعداد کو جوڑنے پر ہمیں ایک مثبت صحیح عدد حاصل ہوتا ہے۔
- (ii) دو منفی صحیح اعداد کو جوڑنے پر ہمیں ایک مثبت صحیح عدد حاصل ہوتا ہے۔
- (iii) ایک مثبت اور ایک منفی صحیح عدد کو جوڑنے پر ہمیں ہمیشہ ایک منفی صحیح عدد حاصل ہوتا ہے۔
- (iv) صحیح عدد 8 کا جمعی معکوس (-8) ہے اور (-8) کا جمعی معکوس 8 ہے۔
- (v) تفریق کے لیے ہم صحیح عدد کے جمعی معکوس کو جوڑ دیتے ہیں جو کہ دوسرے صحیح عدد میں سے گھٹا دیا جاتا ہے۔
- (vi) $(-10) + 3 = 10 - 3$
- (vii) $8 + (-7) - (-4) = 8 + 7 - 4$

اپنے جوابات کو نیچے دیے گئے جوابوں سے ملائیے۔

(i) درست۔ مثال کے طور پر

$$(a) 56 + 73 = 129 \quad (b) 113 + 82 = 195$$

اس بیان کی تصدیق کے لیے پانچ مثالیں اور بنائیے۔

(ii) غلط۔ کیونکہ $(-6) + (-7) = -13$ جو ایک مثبت صحیح عدد نہیں ہے۔ درست بیان ہوگا۔ دو منفی صحیح اعداد کو جوڑنے پر ہمیں ایک منفی صحیح


عدد حاصل ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر۔

$$(a) (-56) + (-73) = -129 \quad (b) (-113) + (-82) = -195$$

(iii) اس بیان کی تصدیق کے لیے آپ خود سے پانچ مثالیں اور بنائیے۔ $9+16=7$ ۔ جو کہ ایک منفی عدد نہیں ہے۔ درست بیان ہوگا۔ ایک مثبت اور ایک منفی صحیح عدد کو جوڑنے پر ہم ان دونوں اعداد کا فرق معلوم کرتے ہیں اور بڑے صحیح عدد کا نشان لگا دیتے ہیں۔ بڑے صحیح عدد کا فیصلہ دونوں صحیح اعداد کو ان کے نشانوں سے الگ کر کے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر۔

(a) $(-56) + (73) = 17$ (b) $(-113) + 82 = -31$
(c) $16 + (-23) = -7$ (d) $125 + (-101) = 24$



اس بیان کی تصدیق کے لیے پانچ مثالیں اور بنائیے۔
(iv) درست۔ جمعی معکوس کی کچھ اور مثالیں نیچے دی جا رہی ہیں۔

صحیح اعداد	جمعی معکوس
10	-10
-10	10
76	-76
-76	76

لہذا، کسی صحیح عدد a کا جمعی معکوس $-a$ ہے اور $(-a)$ کا جمعی معکوس a ہے۔
(v) درست تفریق جمع کے برعکس ہے اور اسی لیے ہم صحیح عدد کے جمعی معکوس کو جوڑ دیتے ہیں جو دوسرے صحیح عدد میں ہے گھٹا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر۔

(a) $56 - 73 = 56 + (-73) = -17$ کا جمعی معکوس $73 = 56 + (-73) = -17$
(b) $56 - (-73) = 56 + 73 = 129$ کا جمعی معکوس $(-73) = 56 + 73 = 129$
(c) $(-79) - 45 = (-79) + (-45) = -124$
(d) $(-100) - (-172) = -100 + 172 = 72$

اس بیان کی تصدیق کے لیے کم از کم پانچ مثالیں دیجیے۔
لہذا، دو صحیح اعداد a اور b کے لیے ہم نے پایا کہ

$a - b = a + (-b)$ کا جمعی معکوس $b = a + (-b)$

اور $a - (-b) = a + b$ کا جمعی معکوس $(-b) = a + b$

(vi) غلط، کیونکہ $10 - 3 = 7$ اور $(-10) + 3 = -7$

اس لیے $(-10) + 3 = 10 - 3$

(vii) غلط، کیونکہ $8 + (-7) - (-4) = 8 + (-7) + 4 = 1 + 4 = 5$

اور $8 + 7 - 4 = 15 - 4 = 11$

جب کہ $8 + (-7) - (-4) = 8 - 7 + 4$

کوشش کیجیے:

ہم گزشتہ کلاس میں اعداد کے مختلف پیٹرن کر چکے ہیں۔


کیا آپ مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کے لیے ایک پیٹرن تلاش کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو ان کو مکمل کیجیے

- (a) 7, 3, -1, -5, —, —, —
 (b) -2, -4, -6, -8, —, —, —
 (c) 15, 10, 5, 0, —, —, —
 (d) -11, -8, -5, -2, —, —, —

اسی طرح کے کچھ اور پیٹرن تیار کیجیے اور اپنے دوستوں سے ان کو مکمل کرنے کے لیے کہیے۔




مشق 1.1



- (a) اس عددی خط کا مشاہدہ کیجیے اور اس پر درج مختلف مقامات کے درجہ حرارت لکھیے۔
 (b) اوپر دیے گئے مقامات میں سب سے زیادہ گرم اور سب سے زیادہ سرد مقام کے درجہ حرارت کے فرق کو بتائیے؟
 (c) لاہسپٹی اور سری نگر کے درمیان درجہ حرارت میں کتنا فرق ہے؟
 (d) کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سری نگر اور شملہ دونوں کے درجہ حرارت ملا کر شملہ درجہ حرارت سے کم ہے؟ کیا یہ سری نگر کے درجہ حرارت سے بھی کم ہے؟



- 2- ایک معلوماتی مقابلے میں درست جوابات کے لیے مثبت اعداد اور غلط جوابات کے لیے منفی اعداد دیے گئے۔ اگر جیک کو پانچ لگا تار بار یوں میں 25، -5، -10، 15 اور 10 ملے تو آخر میں اس کا کل اسکور کیا ہوگا؟




- 3- سری نگر میں پیر کے دن درجہ حرارت 5°C تھا۔ منگل کو یہ درجہ حرارت 2°C اور کم ہو گیا۔ منگل کو سری نگر میں کتنا درجہ حرارت تھا۔ بدھ کو یہ 4°C بڑھ گیا۔ اس دن کتنا درجہ حرارت تھا؟
 4- ایک ہوائی جہاز سطح سمندر سے 5000 میٹر اوپر اڑ رہا ہے۔ ایک خاص مقام پر جہاز اس پنڈی سے ٹھیک اوپر آ گیا جو کہ سطح سمندر سے 1200 میٹر نیچے تیر رہی ہے۔ ہوائی جہاز اور پنڈی کے درمیان کا عمودی فاصلہ بتائیے؟

- 5- موہن نے اپنے بینک کے کھاتے میں 2,000 جمع کیے اور اگلے دن اس میں سے 1,642 نکال لیے۔ اگر نکالی گئی رقم کو منفی صحیح عدد سے ظاہر کیا جائے تو آپ جمع کی گئی رقم کو کس سے ظاہر کریں

گے؟ رقم نکالنے کے بعد موہن کے کھاتے میں باقی بچی رقم بتائیے؟

- 6- ریتا نقطہ A سے 20 کلومیٹر مشرق کی جانب چل کر نقطہ B پر پہنچ گئی۔ نقطہ B سے اس سڑک پر چلتے ہوئے وہ 30 کلومیٹر مغرب کی جانب گئی۔ اگر مشرق کی جانب کے فاصلے کو مثبت صحیح عدد سے ظاہر کیا جائے تو آپ مغرب کی جانب کے فاصلے کو کیسے ظاہر کریں گے؟ نقطہ A سے شروع کرتے ہوئے اس کی آخری حالت کو آپ کس صحیح عدد سے ظاہر کریں گے؟



- 7- ایک طلسمی مربع ایسا چارخانہ ہوتا ہے جس کے اندر بنے چوکور خانوں میں درج اعداد کی کتنی افقی، عمودی، وتری ہر قطار میں یکساں ہوتی ہے۔ جانچ کیجیے کہ درج ذیل میں کون سے طلسمی مربع ہیں۔

5	-1	-4
-5	-2	7
0	3	-3

(i)

1	-10	0
-4	-3	-2
-6	4	-7

(ii)

- 8- a اور b کی درج ذیل قیمتوں کے لیے $a - (-b) = a + b$ کی جانچ کیجیے

(i) $a = 21, b = 18$

(ii) $a = 118, b = 125$

(iii) $a = 75, b = 84$

(iv) $a = 28, b = 11$

- 9- درج ذیل بیانات کو درست بنانے کے لیے باکس میں <، > یا = کے نشان لگائیے۔

(a)	$(-8) + (-4)$		$(-8) - (-4)$
(b)	$(-3) + 7 - (19)$		$15 - 8 + (-9)$
(c)	$23 - 41 + 11$		$23 - 41 - 11$
(d)	$39 + (-24) - (15)$		$36 + (-52) - (-36)$
(e)	$-231 + 79 + 51$		$-399 + 159 + 81$

- 10- پانی کے ایک ٹینک میں نیچے کی طرف سیڑھیاں جارہی ہیں، سب سے اوپر والی سیڑھی پر ایک بندر بیٹھا ہوا ہے (یعنی پہلی سیڑھی)۔ پانی کی سطح نوں سیڑھی پر ہے۔



- (i) وہ 3 سیڑھی نیچے جاتا ہے اور پھر دو سیڑھی اوپر کود جاتا ہے۔ کتنی بار کودنے پر وہ پانی کی سطح تک پہنچ جائے گا؟

- (ii) پانی پینے کے بعد وہ واپس جانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ ہر بار 4 سیڑھیاں اوپر جاتا ہے اور 2 سیڑھیاں نیچے کود جاتا ہے۔ کتنی بار کودنے پر وہ سب سے اوپر کی سیڑھی پر پہنچ جائے گا؟

- (iii) اگر نیچے جانے والی سیڑھیوں کو منفی صحیح عدد اور اوپر جانے والی سیڑھیوں کو مثبت صحیح عدد سے ظاہر کیا جاتا ہے تو درج ذیل کو مکمل کرتے ہوئے حصہ (i) اور (ii) میں بندر کی چھلانگوں کو ظاہر کیجیے۔


(a) $-3 + 2$ (b) $4 - 2 + \dots = 8$ ، $8 - \dots = -8$ (c) -8 (d) -8 (e) -8 (f) -8 (g) -8 (h) -8 (i) -8 (j) -8 (k) -8 (l) -8 (m) -8 (n) -8 (o) -8 (p) -8 (q) -8 (r) -8 (s) -8 (t) -8 (u) -8 (v) -8 (w) -8 (x) -8 (y) -8 (z) -8

(b) میں جواب 8 کس کو ظاہر کرے گا۔

1.3 صحیح اعداد کے جمع اور تفریق کی خصوصیات

1.3.1 جمع کی بندشی خاصیت Closure Under Addition

ہم پڑھ چکے ہیں کہ دو مکمل اعداد کا جوڑ ہمیشہ مکمل عدد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر $17 + 24 = 41$ جس کا جواب ایک مکمل عدد ہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس خصوصیت کو مکمل اعداد کی جمع کے لیے بندشی خاصیت کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ خصوصیت صحیح اعداد کے لیے بھی درست ہے۔ درج ذیل میں صحیح اعداد کے کچھ جوڑ دیے گئے ہیں۔ درج ذیل جدول کا مشاہدہ کیجیے اور پھر اس کو مکمل کیجیے۔



بیانات	مشاہدات
(i) $17 + 23 = 40$	جواب صحیح عدد ہے
(ii) $(-10) + 3 = \underline{\hspace{2cm}}$	
(iii) $(-75) + 18 = \underline{\hspace{2cm}}$	
(iv) $9 + (-25) = -6$	جواب صحیح عدد ہے
(v) $27 + (-27) = \underline{\hspace{2cm}}$	
(vi) $(-20) + 0 = \underline{\hspace{2cm}}$	
(vii) $(-35) + (-10) = \underline{\hspace{2cm}}$	

آپ نے کیا مشاہدہ کیا؟ کیا دو صحیح اعداد کا جوڑ ہمیشہ ایک صحیح عدد ہوتا ہے؟ کیا آپ صحیح اعداد کا ایک ایسا جوڑا بنا سکتے ہیں جس کا جوڑ صحیح عدد نہ ہو؟ کیونکہ صحیح اعداد کو جوڑنے پر صحیح اعداد ہی حاصل ہوتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح اعداد کی جمع بندشی خاصیت رکھتی ہے۔ عام طور پر کوئی بھی دو صحیح اعداد a اور b کے لیے $a+b$ ایک صحیح عدد ہوتا ہے۔

1.3.2 تفریق کی بندشی خاصیت Closure under Subtraction

اگر ایک صحیح عدد کو دوسرے صحیح عدد میں سے گھٹایا جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو صحیح عدد کو گھٹانے پر ایک صحیح عدد حاصل ہوگا؟ درج ذیل جدول کا مشاہدہ کیجیے اور پھر اس کو مکمل کیجیے۔

بیانات	مشاہدات
(i) $7 - 9 = -2$	جواب صحیح عدد ہے
(ii) $17 - (-21) = \underline{\hspace{2cm}}$	
(iii) $(-8) - (-14) = 6$	
(iv) $(-21) - (-10) = \underline{\hspace{2cm}}$	جواب صحیح عدد ہے
(v) $32 - (-17) = \underline{\hspace{2cm}}$	
(vi) $(-18) - (-18) = \underline{\hspace{2cm}}$	
(vii) $(-29) - 0 = \underline{\hspace{2cm}}$	

آپ کا مشاہدہ کیا ہے؟ کیا صحیح اعداد کا کوئی جوڑا ایسا بھی ہے جن کا فرق صحیح عدد نہیں ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح اعداد کی تفریق بندشی خاصیت رکھتی ہے؟ ہاں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح اعداد کی تفریق بندشی خاصیت رکھتی ہے؟
لہذا، اگر a اور b صحیح اعداد ہیں تو $a-b$ ہمیشہ ایک صحیح عدد ہوگا۔ کیا مکمل اعداد بھی یہ خصوصیت رکھتے ہیں۔

1.3.3 تقلیلی خصوصیت Commutative Property

ہم جانتے ہیں کہ $3+5=5+3=8$ یعنی مکمل اعداد کو کسی بھی ترتیب میں جوڑا جاسکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں مکمل اعداد کی جمع تقلیلی خصوصیت رکھتی ہیں۔ کیا ہم یہی بات صحیح اعداد کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ $5+(-6)=-1$ اور $(-6)+5=-1$ اس لیے،

$$5+(-6)=(-6)+5$$

کیا درج ذیل برابر ہیں؟

$$(i) \quad (-9) + (-8) \text{ اور } (-8) + (-9)$$

$$(ii) \quad 32 + (-23) \text{ اور } (-23) + 32$$

$$(iii) \quad 0 + (-45) \text{ اور } (-45) + 0$$

صحیح اعداد کے پانچ اور دوسرے جوڑوں کے لیے اس کو کر کے دیکھیے۔ کیا آپ کو صحیح اعداد کا کوئی جوڑا ایسا ملا جس کی ترتیب بدلنے پر جوڑ مختلف آئے؟ یقیناً نہیں۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح اعداد کی جمع تقلیلی خاصیت رکھتی ہے۔
عام طور پر کوئی بھی دو صحیح اعداد a اور b کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ

$$a+b=b+a$$

• ہم جانتے ہیں کہ مکمل اعداد کی تفریق تقلیلی خاصیت نہیں رکھتی ہے۔ کیا صحیح اعداد کی تفریق تقلیلی خاصیت رکھتی ہے؟
صحیح اعداد 5 اور (-3) کو لیجیے۔

$$\text{کیا } (-3)-5 \text{ اور } 5-(-3) \text{ ایک جیسے ہیں؟ نہیں، کیونکہ } 5-(-3)=5+3=8 \text{ اور } (-3)-5=-3-5=-8$$

صحیح اعداد کے کم از کم پانچ جوڑے لیجیے اور اس کی جانچ کیجیے۔

نتیجہ کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح اعداد کی تفریق تقلیلی خاصیت نہیں رکھتی ہے۔

1.3.4 تلازمی خصوصیت Associative Property


درج ذیل مثالوں کا مشاہدہ کیجیے

صحیح اعداد -3، -2 اور -5 کو لیجیے۔

$$[(-3) + (-2)] + (-5) \text{ اور } (-3) + [(-2) + (-5)] \text{ پر دھیان دیجیے۔}$$

پہلے سوال میں (-3) اور (-2) کا ایک گروپ بنایا گیا ہے جب کہ دوسرے سوال میں (-5) اور (-3) کا ایک گروپ بنایا گیا ہے۔ آئیے

ہم جانچ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں مختلف نتائج ملیں گے۔



دونوں ہی حالتوں میں ہم کو -10 حاصل ہوتا ہے۔

یعنی $(-5) + [(-3) + (-2)] = [(-5) + (-2)] + (-3)$

بالکل اسی طرح -3، 1 اور -7 کو لیجیے۔

$$(-3) + [1 + (-7)] = -3 + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$[(-3) + 1] + (-7) = -2 + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

کیا $(-3) + [1 + (-7)]$ اور $[(-3) + 1] + (-7)$ ایک جیسے ہیں؟

ایسی ہی پانچ اور مثالیں لیجیے۔ آپ کو ایسی کوئی بھی مثال نہیں ملے گی جس کے جوابات مختلف ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحیح اعداد کی جمع ملازمی خاصیت رکھتی ہے۔

عام طور پر کوئی بھی صحیح اعداد a ، b اور c کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ

$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

1.3.5 جمعی تماثلہ (Additive Identity)

جب ہم کسی مکمل عدد میں صفر کو جوڑتے ہیں تو ہم کو وہی مکمل عدد حاصل ہوتا ہے۔ مکمل اعداد کے لیے صفر جمعی تماثلہ ہے۔ کیا یہ صحیح اعداد کے لیے بھی جمعی تماثلہ ہے؟

درج ذیل کا مشاہدہ کیجیے اور خالی جگہوں کو بھریے۔

$$0 + (-8) = -8 \quad \text{(ii)} \quad (-8) + 0 = -8 \quad \text{(i)}$$

$$0 + (-37) = -37 \quad \text{(iv)} \quad (-23) + 0 = \underline{\hspace{2cm}} \quad \text{(iii)}$$

$$0 + \underline{\hspace{2cm}} = -43 \quad \text{(vi)} \quad 0 + (-59) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \text{(v)}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} + 0 = \underline{\hspace{2cm}} \quad \text{(viii)} \quad -61 + \underline{\hspace{2cm}} = -61 \quad \text{(vii)}$$

اوپر دی گئی مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحیح اعداد کے لیے صفر جمعی تماثلہ ہے۔

آپ کوئی بھی دوسرے پانچ صحیح اعداد میں صفر کو جوڑ کر اس کی جانچ کر سکتے ہیں۔

عام طور پر کسی صحیح عدد a کے لیے

$$a + 0 = a = 0 + a$$

کوشش کیجیے:

- 1- صحیح اعداد کا ایک ایسا جوڑ بنائیے جس کا جوڑ
 - (a) منفی صحیح عدد ہے
 - (b) صفر ہو
 - (c) دونوں صحیح اعداد سے چھوٹا صحیح عدد ہو
 - (d) کسی بھی ایک صحیح عدد سے چھوٹا ہو
 - (e) دونوں صحیح اعداد سے بڑا صحیح عدد ہو۔
- 2- صحیح اعداد کا ایک ایسا جوڑ بنائیے جس کا فرق
 - (a) منفی صحیح عدد ہے
 - (b) صفر ہو
 - (c) دونوں صحیح اعداد سے چھوٹا صحیح عدد ہو
 - (d) کسی بھی ایک صحیح عدد سے چھوٹا ہو
 - (e) دونوں صحیح اعداد سے بڑا صحیح عدد ہو



مثال نمبر 1 صحیح اعداد کا ایک ایسا جوڑ بنائیے جس کا

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| (a) جوڑ -3 ہے | (b) فرق -5 ہے |
| (c) فرق 2 ہے | (d) جوڑ 0 ہے |
| (a) $(-1) + (-2) = -3$ یا | $(-5) + 2 = -3$ |
| (b) $(-9) - (-4) = -5$ یا | $(-2) - 3 = -5$ |
| (c) $(-7) - (-9) = 2$ یا | $1 - (-1) = 2$ |
| (d) $(-10) + 10 = 0$ یا | $5 + (-5) = 0$ |


حل

کیا آپ ان مثالوں کے کچھ اور جوڑے لکھ سکتے ہیں؟

مشق 1.2



- 1- صحیح اعداد کا ایک ایسا جوڑ لکھیے جس کا
 - (a) جوڑ -7 ہے
 - (b) فرق -10 ہے
 - (c) جوڑ 0 ہے
- 2- صحیح اعداد کا ایک ایسا جوڑ جس کا فرق 8 ہو۔
 - (a) ایک ایسا منفی اور ایک مثبت صحیح عدد لکھیے جن کا جوڑ -5 ہو۔
 - (b) ایک ایسا منفی اور ایک مثبت صحیح عدد لکھیے جن کا فرق -3 ہو۔
- 3- ایک مقابلے میں ٹیم A کا تین لگاتار باریوں میں اسکور -40، 10، 0 اور ٹیم B کا اسکور 10، 0، -40 ہے۔ کون سی ٹیم کا اسکور زیادہ ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح اعداد کو کسی بھی ترتیب میں جوڑا جاسکتا ہے؟



-4

درج ذیل بیانات کو صحیح کرنے کے لیے خالی جگہوں کو بھریے:

- (i) $(-5) + (-8) = (-8) + (\dots\dots\dots)$
(ii) $-53 + \dots\dots\dots = -53$
(iii) $17 + \dots\dots\dots = 0$
(iv) $[13 + (-12)] + (\dots\dots\dots) = 13 + [(-12) + (-7)]$
(v) $(-4) + [15 + (-3)] = [-4 + 15] + \dots\dots\dots$


1.4 صحیح اعداد کی ضرب:

ہم صحیح اعداد کی جمع اور تفریق کر سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم صحیح اعداد کی ضرب سیکھتے ہیں۔

1.4.1 ایک مثبت اور ایک منفی صحیح عدد کی ضرب:

ہم جانتے ہیں کہ مکمل اعداد کی ضرب دراصل ان کی بار بار جمع ہے۔ مثال کے طور پر

$$5 + 5 + 5 = 3 \times 5 = 15$$



کیا آپ صحیح اعداد کی بار بار جمع کو بھی اسی طرح ظاہر کر سکتے ہیں؟

درج ذیل عددی خط سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ $(-5) + (-5) + (-5) = -15$

کوشش کیجیے:

معلوم کیجیے

- $4 \times (-8)$,
 $8 \times (-2)$,
 $3 \times (-7)$,
 $10 \times (-1)$


لیکن ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں

$$(-5) + (-5) + (-5) = 3 \times (-5)$$

اس لیے $3 \times (-5) = -15$

اسی طرح

$$(-4) + (-4) + (-4) + (-4) + (-4) = 5 \times (-4) = -20$$



$$(-3) + (-3) + (-3) + (-3) = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots \text{ اور}$$

$$(-7) + (-7) + (-7) = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots \text{ اور}$$

آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ عددی خط کا استعمال کیے بنا ایک مثبت اور ایک صحیح عدد کی ضرب کیسے کی جاتی ہے۔

آئیے $3 \times (-5)$ کو مختلف طریقوں سے حل کرتے ہیں۔ پہلے 3×5 کو معلوم کیجیے اور پھر حاصل ضرب سے پہلے منفی نشان لگائیے۔ آپ

کو 15- حاصل ہوگا۔ یعنی ہم (3×5) - معلوم کریں گے 15- حاصل کرنے کے لیے۔

اسی طرح

$$5 \times (-4) = -(5 \times 4) = -20$$

بالکل اسی طریقے سے معلوم کیجیے

$$4 \times (-8) = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad 3 \times (-7) = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$6 \times (-5) = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad 2 \times (-9) = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

اسی طریقے کا استعمال کر کے ہم کو حاصل ہوگا

$$10 \times (-43) = \underline{\hspace{2cm}} - (10 \times 43) = -430$$

اب تک صحیح اعداد کی ضرب ہم اس طرح کرتے آئے ہیں (مثبت صحیح عدد) $\times$ (منفی صحیح عدد)

اب ذرا ان کو اس طرح ضرب کیجیے (منفی صحیح عدد) $\times$ (مثبت صحیح عدد)

ہم پہلے 5×3 - معلوم کریں گے

اس کو معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کا مشاہدہ کیجیے



$$\begin{aligned} 3 \times 5 &= 15 \\ 2 \times 5 &= 10 = 15 - 5 \\ 1 \times 5 &= 5 = 10 - 5 \\ 0 \times 5 &= 0 = 5 - 5 \\ -1 \times 5 &= 0 - 5 = -5 \\ -2 \times 5 &= -5 - 5 = -10 \\ -3 \times 5 &= -10 - 5 = -15 \end{aligned}$$

ہم پہلے ہی جانتے ہیں $3 \times (-5) = -15$

اور اب ہم کو حاصل ہوا ہے $(-3) \times 5 = -15 = 3 \times (-5)$

اس طرح کے پیٹرن کا استعمال کر کے ہم $(-5) \times 4 = -20 = 5 \times (-4)$ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

پیٹرن کا استعمال کر کے معلوم کیجیے $8 \times (-4)$ ، $7 \times (-3)$ ، $5 \times (-6)$ اور $9 \times (-2)$

جانچ کیجیے کیا، $8 \times (-4) = 4 \times (-8)$ ، $7 \times (-3) = 3 \times (-7)$ ، $5 \times (-6) = 6 \times (-5)$

اور $9 \times (-2) = 2 \times (-9)$

اس کا استعمال کر کے ہم کو حاصل ہوگا $(-33) \times 5 = 33 \times (-5) = -165$

اس طرح ہم کو معلوم ہوا کہ جب ایک مثبت صحیح عدد اور ایک منفی صحیح عدد کو ضرب کیا جاتا ہے تو ہم ان کو مکمل اعداد کی طرح ہی ضرب کرتے

ہیں اور حاصل ضرب سے پہلے (-) کا نشان لگا دیتے ہیں۔ اس طرح ہم کو ایک منفی صحیح عدد حاصل ہو جاتا ہے۔

کوشش کیجیے:

معلوم کیجیے

$$6 \times (-19) \quad (i)$$

$$12 \times (-32) \quad (ii)$$

$$7 \times (-22) \quad (iii)$$

کوشش کیجیے:

1- معلوم کیجیے

- (a) $15 \times (-16)$ (b) $21 \times (-32)$
 (c) $(-42) \times 12$ (d) -55×15

2- جانچ کیجیے

- (a) $25 \times (-21) = (-25) \times 21$ (b) $(-23) \times 20 = 23 \times (-20)$

ایسی ہی پانچ اور مثالیں لکھیے۔



عام طور پر کوئی بھی دو مثبت صحیح اعداد a اور b کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ

$$a \times (b - c) = (a \times b) - (a \times c)$$

1.4.2 دو منفی اعداد کی ضرب

کیا آپ $(-2) \times (-3)$ کا حاصل ضرب معلوم کر سکتے ہیں؟

درج ذیل کا مشاہدہ کیجیے:

$$\begin{aligned} -3 \times 4 &= -12 \\ -3 \times 3 &= -9 = -12 - (-3) \\ -3 \times 2 &= -6 = -9 - (-3) \\ -3 \times 1 &= -3 = -6 - (-3) \\ -3 \times 0 &= 0 = -3 - (-3) \\ -3 \times -1 &= 3 = 0 - (-3) = 0 + 3 = 3 \\ -3 \times -2 &= 6 = 3 - (-3) = 3 + 3 = 6 \end{aligned}$$



کیا آپ کو اس میں کوئی پیٹرن نظر آ رہا ہے؟ مشاہدہ کیجیے کہ کیسے حاصل ضرب بدل رہے ہیں۔

اس مشاہدہ کی بنیاد پر درج ذیل کو مکمل کیجیے:

$$-3 \times -3 = \underline{\hspace{2cm}} \quad -3 \times -4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

اب ان خالی جگہوں کا مشاہدہ کیجیے اور خالی جگہوں کو بھریے

$$\begin{aligned} -4 \times 4 &= -16 \\ -4 \times 3 &= -12 = -16 + 4 \\ -4 \times 2 &= \underline{\hspace{2cm}} = -12 + 4 \\ -4 \times 1 &= \underline{\hspace{2cm}} \\ -4 \times 0 &= \underline{\hspace{2cm}} \\ -4 \times (-1) &= \underline{\hspace{2cm}} \\ -4 \times (-2) &= \underline{\hspace{2cm}} \\ -4 \times (-3) &= \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

کوشش کیجیے:

- (i) $(-5) \times 4$ سے شروع کرتے ہوئے $(-6) \times (-5)$ معلوم کیجیے۔
(ii) $(-6) \times 3$ سے شروع کرتے ہوئے $(-7) \times (-6)$ معلوم کیجیے۔

ان پیٹرنس سے ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ

$$(-3) \times (-1) = 3 = 3 \times 1$$

$$(-3) \times (-2) = 6 = 3 \times 2$$

$$(-3) \times (-3) = 9 = 3 \times 3$$

$$(-4) \times (-1) = 4 = 4 \times 1$$

اور

$$(-4) \times (-2) = 4 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

اس لیے

$$(-4) \times (-3) = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

ان حاصل ضرب کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو منفی صحیح اعداد کا حاصل ضرب ایک مثبت صحیح عدد ہوتا ہے۔ ہم دو منفی صحیح اعداد کو مکمل اعداد کی طرح ضرب کرتے ہیں اور پھر ان کے حاصل ضرب سے پہلے مثبت نشان لگا دیتے ہیں۔

$$(-10) \times (-12) = 120 \quad \text{لہذا}$$

$$(-15) \times (-6) = 90 \quad \text{اسی طرح}$$

عام طور پر کوئی بھی دو مثبت صحیح اعداد a اور b کے لیے

$$(-a) \times (-b) = a \times b$$

کوشش کیجیے:

$$(-83) \times (-28), (-25) \times (-72), (-31) \times (-100) \quad \text{معلوم کیجیے}$$

کھیل 1

- (i) ایک ایسا بورڈ لیجیے جس میں 104 سے 104 تک کے اعداد دکھائے گئے ہیں۔ جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔
(ii) ایک بیگ لیجیے جس میں دو نیلے اور دو لال پانسے ہوں۔ نیلے پانسے پر دکھائے گئے ڈاٹ مثبت صحیح اعداد کو ظاہر کرتے ہیں اور لال پانسے پر دکھائے گئے ڈاٹ منفی صحیح اعداد کو ظاہر کرتے ہیں۔
(iii) ہر کھلاڑی اپنی گوٹ صفر پر رکھے گا۔
(iv) ہر کھلاڑی ایک بار میں بیگ میں سے دو پانسے نکالے گا اور ان کو پھینکے گا۔

104	103	102	101	100	99	98	97	96	95	94
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72
61	60	63	64	65	66	67	68	69	70	71
60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6
-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
-27	-26	-25	-24	-23	-23	-21	-20	-19	-18	-17
-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38
-49	-48	-47	-46	-45	-44	-43	-42	-41	-40	-39
-50	-51	-52	-53	-54	-55	-56	-57	-58	-59	-60
-71	-70	-69	-68	-67	-66	-65	-64	-63	-62	-61
-72	-73	-74	-75	-76	-77	-78	-79	-80	-81	-82
-93	-92	-91	-90	-89	-88	-87	-86	-85	-84	-83
-94	-95	-96	-97	-98	-99	-100	-101	-102	-103	-104




(v) ہر باری میں پانسہ پھینکنے کے بعد کھلاڑی کو دونوں پانسوں پر حاصل ہوئے اعداد کو ضرب کرنا ہوگا۔

(vi) اگر حاصل ضرب مثبت صحیح عدد ہے تو کھلاڑی اپنی گوت 104 کی طرف بڑھائے گا لیکن اگر حاصل ضرب منفی صحیح عدد ہو تو

کھلاڑی اپنی گوت -104 کی طرف بڑھائے گا۔

(vii) جو کھلاڑی 104 پر پہلے پہنچے گا وہی جیتے گا۔



1.4.3 تین یا زیادہ منفی صحیح اعداد کی ضرب

ماہرین ریاضی ایولر نے اپنی کتاب 'انکلیٹنگ زرا الجبرا' (1770) میں سب سے پہلے $(-1) \times (-1) = 1$ کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔

ہم نے مشاہدہ کیا کہ دو منفی صحیح اعداد کا حاصل ضرب ایک مثبت صحیح عدد ہوتا ہے۔ تین منفی صحیح اعداد کا حاصل ضرب کیا ہوگا؟ چار منفی صحیح اعداد کا؟ درج ذیل مثالوں کا مشاہدہ کیجیے:

- (a) $(-4) \times (-3) = 12$
 (b) $(-4) \times (-3) \times (-2) = [(-4) \times (-3)] \times (-2) = 12 \times (-2) = -24$
 (c) $(-4) \times (-3) \times (-2) \times (-1) = [(-4) \times (-3) \times (-2)] \times (-1) = (-24) \times (-1) = 24$
 (d) $(-5) \times [(-4) \times (-3) \times (-2) \times (-1)] = (-5) \times 24 = -120$

ایک خاص مسئلہ

درج ذیل بیانات اور ان کے حاصل ضرب کو دیکھیے

$$(-1) \times (-1) = +1$$

$$(-1) \times (-1) \times (-1) = -1$$

$$(-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) = +1$$

$$(-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) = -1$$

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عدد (-1) کو جفت مرتبہ ضرب دیا جائے تو حاصل $+1$ ہوگا اور اگر عدد (-1) کو طاق مرتبہ ضرب دیا جائے تو حاصل -1 آئے گا۔ (-1) کے جوڑے بنا کر اس کی جانچ کی جاسکتی ہے۔ اعداد کا حاصل ضرب نکالنے میں اس سے مدد ملتی ہے۔

اوپر دی گئی حاصل ضرب سے ہم نے مشاہدہ کیا کہ

- (a) دو منفی صحیح اعداد کا حاصل ضرب مثبت صحیح عدد ہوتا ہے۔
 (b) تین منفی صحیح اعداد کا حاصل ضرب منفی صحیح عدد ہوتا ہے۔
 (c) چار منفی صحیح اعداد کا حاصل ضرب مثبت صحیح عدد ہوتا ہے۔
 (d) پانچ منفی صحیح اعداد کا حاصل ضرب کیا ہوگا؟

اس لیے چھ منفی صحیح اعداد کا حاصل ضرب کیا ہوگا؟

ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اوپر دیے گئے (a) اور (c) میں دیے گئے منفی

اعداد کی تعداد جفت عدد ہے۔ (بالترتیب دو اور چار)۔ اور (a) اور

(c) کا حاصل ضرب مثبت صحیح اعداد ہے۔ جب کہ (b) اور (d) میں دیے گئے منفی اعداد کی تعداد طاق عدد ہے اور (b) اور (d) کا حاصل ضرب منفی صحیح اعداد ہیں۔

ہم نے معلوم کیا کہ اگر کسی ضرب میں منفی صحیح اعداد کی تعداد جفت ہے تو حاصل ضرب مثبت صحیح عدد ہوگا اور اگر ضرب میں منفی صحیح اعداد کی تعداد طاق ہے تو حاصل ضرب منفی صحیح عدد ہوگا۔

ہر قسم کی پانچ مثالیں لے کر اس کی جانچ کیجیے۔

سوچیے، بات چیت کیجیے اور لکھیے

- (i) $(-9) \times (-5) \times (-6) \times (-3)$ کا حاصل ضرب مثبت صحیح عدد ہوگا جب کہ $(-9) \times (-5) \times 6 \times (-3)$ کا حاصل ضرب منفی ہوگا۔ کیوں؟

- (ii) اگر ہم درج ذیل کو ایک ساتھ ضرب کریں تو حاصل ضرب کا نشان کیا ہوگا

(a) 8 منفی صحیح اعداد اور 3 مثبت صحیح اعداد

(b) 5 منفی صحیح اعداد اور 4 مثبت صحیح اعداد

(c) (-1) کو بارہ مرتبہ

(d) (-1) کو $2m$ مرتبہ جہاں m ایک فطری عدد ہے

1.5 صحیح اعداد کے ضرب کی خصوصیات Properties Of Multiplication Of Integers

1.5.1 ضرب کی بندشی خصوصیت (Closure under Multiplication)

1- درج ذیل جدول کا مشاہدہ کیجیے اور پھر اس کو مکمل کیجیے۔

حاصل ضرب ایک صحیح عدد ہے	$(-20) \times (-5) = 100$
حاصل ضرب ایک صحیح عدد ہے	$(-15) \times 17 = -255$
	$(-30) \times 12 = \underline{\hspace{2cm}}$
	$(-15) \times (-23) = \underline{\hspace{2cm}}$
	$(-14) \times (-13) = \underline{\hspace{2cm}}$
	$12 \times (-30) = \underline{\hspace{2cm}}$

آپ کا مشاہدہ کیا ہے؟ کیا آپ کو صحیح اعداد کا کوئی ایسا جوڑا ملا جس کا حاصل ضرب صحیح عدد نہ ہو؟ نہیں۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ دو صحیح اعداد کا حاصل ضرب ایک صحیح عدد ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح اعداد کی ضرب بندشی خصوصیت رکھتی ہے۔


عام طور پر

کسی بھی دو صحیح اعداد a اور b کے لیے $a \times b$ بھی ایک صحیح عدد ہوتا ہے۔

1.5.2 ضرب کی تقابلی خصوصیت Commutativity of Multiplication

ہم جانتے ہیں کہ مکمل اعداد کی ضرب تقابلی خصوصیت رکھتی ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح اعداد کی ضرب بھی تقابلی خصوصیت رکھتی ہے؟ درج ذیل جدول کا مشاہدہ کیجیے اور اس کو مکمل کیجیے:

بیان 1	بیان 2	اخذ کیے گئے نتائج
$3 \times (-4) = -12$	$(-4) \times 3 = -12$	$3 \times (-4) = (-4) \times 3$
$(-30) \times 12 = \underline{\hspace{2cm}}$	$12 \times (-30) = \underline{\hspace{2cm}}$	
$(-15) \times (-10) = 150$	$(-10) \times (-15) = 150$	
$(-35) \times (-12) = \underline{\hspace{2cm}}$	$(-12) \times (-35) = \underline{\hspace{2cm}}$	
$(-17) \times 0 = \underline{\hspace{2cm}}$		
$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$	$(-1) \times (-15) = \underline{\hspace{2cm}}$	



آپ کے مشاہدات کیا ہیں؟ اوپر کی مثالیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ صحیح اعداد کی ضرب تقابلی خصوصیت رکھتی ہے۔ ایسی ہی پانچ اور مثالیں لیجیے اور اس کی جانچ کیجیے۔
عام طور پر کسی بھی دو صحیح اعداد a اور b کے لیے

$$a \times b = b \times a$$

1.5.3 صفر سے ضرب (Multiplication by Zero)

ہم جانتے ہیں کہ جب کسی مکمل عدد کو صفر سے ضرب کرتے ہیں تو صفر ہی حاصل ہوتا ہے۔ درج ذیل دیے گئے منفی اعداد اور صفر کی ضرب کا مشاہدہ کیجیے۔ یہ پہلے کیے جانے والے پٹرن سے حاصل ہوئے ہیں۔

$$(-3) \times 0 = 0$$

$$0 \times (-4) = 0$$

$$-5 \times 0 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$0 \times (-6) = \underline{\hspace{2cm}}$$

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ منفی عدد کو صفر سے ضرب کرنے پر صفر ہی حاصل ہوتا ہے۔
عام طور پر کسی بھی صحیح عدد a کے لیے

$$a \times 0 = 0 \times a = 0$$

1.5.4 ضربی تماثلہ (Multiplicative Identity)

ہم جانتے ہیں کہ مکمل اعداد کا ضربی تماثلہ 1 ہے۔

ذرا جانچ کیجیے کہ کیا صحیح اعداد کا ضربی تماثلہ بھی 1 ہے۔ درج ذیل دی گئی اعداد اور 1 کی ضرب کا مشاہدہ کیجیے:

$$(-3) \times 1 = -3$$

$$1 \times 5 = 5$$

$$(-4) \times 1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$1 \times 8 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$1 \times (-5) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$3 \times 1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$1 \times (-6) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$7 \times 1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحیح اعداد کا ضربی تماثلہ بھی 1 ہے۔
عام طور پر کسی بھی صحیح عدد a کے لیے

$$a \times 1 = 1 \times a = a$$

اگر ہم کسی صحیح عدد کو -1 سے ضرب کریں تو کیا ہو؟ درج ذیل کو مکمل کیجیے:

$$(-3) \times (-1) = 3$$

$$3 \times (-1) = -3$$

$$(-6) \times (-1) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(-1) \times 13 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(-1) \times (-25) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$18 \times (-1) = \underline{\hspace{2cm}}$$

صحیح اعداد کا جمعی تماثلہ 0 ہے اور ضربی تماثلہ 1 ہے۔ اگر ہم کسی صحیح عدد a کو (-1) سے ضرب کرتے ہیں تو ہم کو اس عدد a کا جمعی معکوس حاصل ہوتا ہے۔
یعنی $a \times (-1) = (-1) \times a = -a$

آپ کا مشاہدہ کیا ہے؟
کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح اعداد کا ضربی تماشل 1- ہے؟ نہیں۔

1.5.5 ضرب کی تلازمی خصوصیت (Associativity for Multiplication)

3-، 2- اور 5 کو لیجیے۔

$$(-3) \times [(-2) \times 5] \text{ اور } [(-3) \times (-2)] \times 5 \text{ کو دیکھیے}$$

پہلی حالت میں (-3) اور (-2) کو اکٹھا کیا گیا ہے جب کہ دوسری حالت میں (-2) اور 5 کو اکٹھا کیا گیا ہے۔

$$[(-3) \times (-2)] \times 5 = 6 \times 5 = 30 \text{ ہم نے دیکھا کہ}$$

$$(-3) \times [(-2) \times 5] = (-3) \times (-10) = 30 \text{ اور}$$

تو، دونوں حالتوں میں ہم کو ایک ہی جواب ملا۔

$$\text{لہذا، } [(-3) \times (-2)] \times 5 = (-3) \times [(-2) \times 5]$$

اس کو دیکھیے اور حاصل ضرب کو مکمل کیجیے۔

$$[(7) \times (-6)] \times 4 = \underline{\hspace{2cm}} \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$7 \times [(-6) \times 4] = 7 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$[7 \times (-6)] \times 4 = 7 \times [(-6) \times 4] \text{ کیا}$$

کیا صحیح اعداد کی گروپنگ، ان کے حاصل ضرب پر اثر انداز ہوتی ہے؟ نہیں۔

عام طور پر کسی بھی تین صحیح اعداد a، b اور c کے لیے

$$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$$

a اور b ہر ایک ہی پانچ پانچ قیمتیں لیجیے اور اس خصوصیت کی جانچ کیجیے۔

لہذا، مکمل اعداد کی طرح، تین صحیح اعداد کی ضرب، صحیح اعداد کی گروپنگ پر منحصر نہیں ہوتی ہے اور اس خصوصیت کو صحیح اعداد کی ضرب کی تلازمی خصوصیت کہتے ہیں۔

1.5.6 تقسیمی خصوصیت: Distributive Property

ہم جانتے ہیں کہ

$$16 \times (10 + 2) = (16 \times 10) + (16 \times 2) \text{ (جمع پر ضرب کا تقسیمی کلیہ)}$$

ذرا جانچ کیجیے کہ کیا یہ صحیح اعداد کے لیے بھی درست ہے۔



درج ذیل کا مشاہدہ کیجیے:

$$(a) \quad (-2) \times (3 + 5) = -2 \times 8 = -16$$

$$[(-2) \times 3] + [(-2) \times 5] = (-6) + (-10) = -16$$

اور

$$(-2) \times (3 + 5) = [(-2) \times 3] + [(-2) \times 5]$$

اس لیے

$$(b) \quad (-4) \times [(-2) + 7] = (-4) \times 5 = -20$$

$$[(-4) \times (-2)] + [(-4) \times 7] = 8 + (-28) = -20$$

اور

$$(-4) \times [(-2) + 7] = [(-4) \times (-2)] + [(-4) \times 7]$$

اس لیے

$$(c) \quad (-8) \times [(-2) + (-1)] = (-8) \times (-3) = 24$$

$$[(-8) \times (-2)] + [(-8) \times (-1)] = 16 + 8 = 24$$

اور

$$(-8) \times [(-2) + (-1)] = [(-8) \times (-2)] + [(-8) \times (-1)]$$

اس لیے

کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح اعداد جمع پر ضرب کا تقسیمی خصوصیت رکھتے ہیں؟ ہاں۔
عام طور پر کوئی بھی تین صحیح اعداد a, b, c کے لیے

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$$

a, b, c اور ہر ایک کے لیے پانچ پانچ مختلف قیمتیں لیجیے اور اوپر دی گئی تقسیمی خصوصیت کی جانچ کیجیے۔

کوشش کیجیے:



$$(i) \quad کیا \quad 10 \times [(6 + (-2))] = 10 \times 6 + 10 \times (-2)?$$

$$(ii) \quad کیا \quad (-15) \times [(-7) + (-1)] = (-15) \times (-7) + (-15) \times (-1)?$$

درج ذیل پر غور کیجیے:

$$کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ \quad 4 \times (3 - 8) = 4 \times 3 - 4 \times 8?$$

ذرا جانچ کیجیے:

$$4 \times (3 - 8) = 4 \times (-5) = -20$$

$$4 \times 3 - 4 \times 8 = 12 - 32 = -20$$

$$اس لیے \quad 4 \times (3 - 8) = 4 \times 3 - 4 \times 8$$

درج ذیل کو دیکھیے

$$(-5) \times [(-4) - (-6)] = (-5) \times 2 = -10$$

$$[(-5) \times (-4)] - [(-5) \times (-6)] = 20 - 30 = -10$$

اس لیے $(-5) \times [(-4) - (-6)] = [(-5) \times (-4)] - [(-5) \times (-6)]$

$(-9) \times [10 - (-3)]$ اور $[(-9) \times (-3)] - [(-9) \times 10]$ کے لیے جانچ کیجیے

آپ پائیں گے کہ یہ بھی برابر ہیں۔ اور

عام طور پر کوئی بھی تین صحیح اعداد a, b, c اور کے لیے

$$a \times (b - c) = a \times b - a \times c$$

a, b, c ہر ایک کے لیے کم از کم پانچ پانچ مختلف قیمتیں لیجیے اور اس خصوصیت کی جانچ کیجیے۔

کوشش کیجیے:

- (i) کیا $10 \times (6 - (-2)) = 10 \times 6 - 10 \times (-2)$
- (ii) کیا $(-15) \times [(-7) - (-1)] = (-15) \times (-7) - (-15) \times (-1)$



1.5.7 ضرب کو آسان بنائیے Making Multiplication Easier

درج ذیل پر غور کیجیے

- (i) ہم $(-25) \times 37 \times 4$ کو درج ذیل طریقہ سے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔

$$[(-25) \times 37] \times 4 = (-925) \times 4 = -3700$$

یا ہم اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں

$$(-25) \times 37 \times 4 = (-25) \times 4 \times 37 = [(-25) \times 4] \times 37 = (-100) \times 37 = -3700$$

کون سا طریقہ آسان ہے؟

یقیناً دوسرا طریقہ زیادہ آسان ہے کیونکہ (-25) اور 4 کو ضرب کرنے سے 100 حاصل ہوتا ہے جس کو 37 سے ضرب کرنا زیادہ آسان ہے۔ ذرا دھیان دیجیے دوسرے طریقہ میں صحیح اعداد کی تقلیبی اور تلازمی خصوصیات شامل ہیں۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ صحیح اعداد کی تقلیبی، تلازمی اور تقسیمی خصوصیات کی مدد سے ہمارا حساب کتاب آسان ہو جاتا ہے۔ آئیے ذرا اور دیکھتے ہیں کہ ان خصوصیات کا استعمال حساب کو کیسے آسان بناتا ہے۔

- (ii) معلوم کیجیے 16×12

16×12 کو $16 \times (10 + 2)$ بھی لکھ سکتے ہیں۔

$$16 \times 12 = 16 \times (10 + 2) = 16 \times 10 + 16 \times 2 = 160 + 32 = 192$$

- (iii) $(-23) \times 48 = (-23) \times [50 - 2] = (-23) \times 50 - (-23) \times 2 = (-1150) - (-46) = -1104$

- (iv) $(-35) \times (-98) = (-35) \times [(-100) + 2] = (-35) \times (-100) + (-35) \times 2 = 3500 + (-70) = 3430$

$$52 \times (-8) + (-52) \times 2 \quad (v)$$

$(-52) \times 2$ کو $52 \times (-2)$ بھی لکھ سکتے ہیں۔

$$52 \times (-8) + (-52) \times 2 = 52 \times (-8) + 52 \times (-2) \quad \text{اس لیے}$$

$$= 52 \times [(-8) + (-2)] = 52 \times [(-10)] = -520$$

کوشش کیجیے:

تقسیمی خصوصیت کی مدد سے درج ذیل کی قیمت معلوم کیجیے

$$(-49) \times 18; (-25) \times (-31); 70 \times (-19) + (-1) \times 70$$



مثال 2 درج ذیل میں ہر ایک کے لیے حاصل ضرب معلوم کیجیے۔

$$(i) \quad (-18) \times (-10) \times 9 \quad (ii) \quad (-20) \times (-2) \times (-5) \times 7$$

$$(iii) \quad (-1) \times (-5) \times (-4) \times (-6)$$

حل

$$(i) \quad (-18) \times (-10) \times 9 = [(-18) \times (-10)] \times 9 = 180 \times 9 = 1620$$

$$(ii) \quad (-20) \times (-2) \times (-5) \times 7 = -20 \times (-2 \times -5) \times 7 = [-20 \times 10] \times 7 = -1400$$

$$(iii) \quad (-1) \times (-5) \times (-4) \times (-6) = [(-1) \times (-5)] \times [(-4) \times (-6)] = 5 \times 24 = 120$$

مثال 3 جانچ کیجیے $(-30) \times [13 + (-3)] = [(-30) \times 13] + [(-30) \times (-3)]$

$$(-30) \times [13 + (-3)] = (-30) \times 10 = -300$$

$$[(-30) \times 13] + [(-30) \times (-3)] = -390 + 90 = -300$$

$$(-30) \times [13 + (-3)] = [(-30) \times 13] + [(-30) \times (-3)] \quad \text{اس لیے}$$

مثال 4 ایک کلاس کی جانچ کے پرچہ میں 15 سوال دیے گئے تھے۔ اس میں ہر صحیح جواب کے لیے 4 نمبر اور ہر غلط جواب کے لیے

(-2) نمبر دیے گئے۔

(i) اگر پریت نے تمام سوال حل کیے مگر اس کے صرف 9 جواب صحیح تھے۔ اس نے کل کتنے نمبر حاصل کیے۔

(ii) اس کی ایک دوست کے صرف 5 جواب صحیح تھے اس کو کتنے نمبر ملے؟

حل (i) ایک صحیح جواب کے لیے حاصل ہونے والے نمبر = 4

$$\text{اس لیے 9 صحیح جوابات کے لیے حاصل ہونے والے نمبر} = 4 \times 9 = 36$$

$$\text{ایک غلط جواب کے لیے حاصل ہونے والے نمبر} = -2$$

$$\text{اس لیے } (15 - 9) = 6 \text{ غلط جوابات کے لیے حاصل ہونے والے نمبر} = -2 \times 6 = -12$$

اس لیے، گرپریت نے کل نمبر حاصل کیے $36 + (-12) = 24$

(ii) ایک صحیح جواب کے لیے حاصل ہونے والے نمبر = 4

اس لیے، 5 صحیح جوابات کے لیے حاصل ہونے والے نمبر $4 \times 5 = 20$

ایک غلط جواب کے لیے حاصل ہونے والے نمبر = (-2)

اس لیے، $(-2) \times 10 = -20$ 10 غلط جوابات کے لیے حاصل ہونے والے نمبر =

اس لیے، اس کی دوست کو کل نمبر ملے $20 + (-20) = 0$

مثال 5 مان لیجیے ہم نے سطح زمین سے اوپر کے فاصلے کو مثبت صحیح عدد اور سطح زمین سے نیچے کا فاصلہ کو منفی صحیح عدد سے ظاہر کیا ہے۔ درج ذیل کے جواب دیجیے:

(i) ایک دافع مشین ایک کان میں 5 میٹر فی منٹ کی رفتار سے اندر اتری۔ ایک گھنٹہ بعد وہ کہاں ہوگی؟

(ii) اگر یہ مشین سطح زمین سے 15 میٹر اونچائی سے نیچے اترنا شروع کرے تو یہ 45 منٹ بعد کہاں ہوگی۔

حل

(i) کیونکہ مشین نیچے جا رہی ہے اس لیے اس کے ذریعے طے کیا گیا فاصلہ منفی صحیح عدد سے ظاہر کیا جائے گا۔

ایک منٹ میں دافع مشین دوری طے کرتی ہے = -5 میٹر

60 منٹ بعد دافع مشین دوری طے کرے گی $= -5 \times 60 = -300$ میٹر

یعنی سطح زمین سے 300 میٹر نیچے

(ii) دافع مشین 45 منٹ میں دوری طے کرے گی $= -5 \times 45 = -225$ میٹر

یعنی سطح زمین سے 225 میٹر نیچے

اس لیے، دافع مشین کل دوری طے کرے گی $= -225 + 15 = -210$ میٹر

یعنی سطح زمین سے 210 میٹر نیچے۔

مشق 1.3

1- درج ذیل کے لیے حاصل ضرب معلوم کیجیے

- | | |
|---|--|
| (a) $3 \times (-1)$ | (b) $(-1) \times 225$ |
| (c) $(-21) \times (-30)$ | (d) $(-316) \times (-1)$ |
| (e) $(-15) \times 0 \times (-18)$ | (f) $(-12) \times (-11) \times (10)$ |
| (g) $9 \times (-3) \times (-6)$ | (h) $(-18) \times (-5) \times (-4)$ |
| (i) $(-1) \times (-2) \times (-3) \times 4$ | (j) $(-3) \times (-6) \times (-2) \times (-1)$ |



2- درج ذیل کو ثابت کیجیے:

(a) $18 \times [7 + (-3)] = [18 \times 7] + [18 \times (-3)]$

(b) $(-21) \times [(-4) + (-6)] = [(-21) \times (-4)] + [(-21) \times (-6)]$

3- (i) کسی بھی صحیح عدد a کے لیے $a \times (-1)$ کس کے برابر ہوگا؟

(ii) وہ صحیح عدد بتائیے جس کا (-1) کے ساتھ حاصل ضرب ہے۔

(a) -22

(b) 37

(c) 0

4- $(-1) \times 5$ سے شروع کرتے ہوئے $(-1) \times (-1) = 1$ کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف پیٹرنس لکھیے۔

5- مناسب خصوصیات کا استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا حاصل ضرب معلوم کیجیے:

(a) $26 \times (-48) + (-48) \times (-36)$

(b) $8 \times 53 \times (-125)$

(c) $15 \times (-25) \times (-4) \times (-10)$

(d) $(-41) \times 102$

(e) $625 \times (-35) + (-625) \times 65$

(f) $7 \times (50 - 2)$

(g) $(-17) \times (-29)$

(h) $(-57) \times (-19) + 57$

6- ایک خاص ٹھنڈا کرنے والا عمل کس کمرے کے درجہ حرارت کو جو کہ 40°C ہے، کو 5°C فی گھنٹہ کی شرح سے کم کرتا ہے۔ یہ عمل

شروع ہونے کے 10 گھنٹے بعد کمرے کا درجہ حرارت کیا ہوگا؟

7- کسی کلاس کے جانچ کے پرچے میں کل 10 سوالات دیے گئے ہیں۔ اس میں ہر صحیح جواب کے لیے 10 نمبر اور ہر غلط جواب کے

لیے (2-) نمبر دیے جاتے ہیں اور اگر کوئی سوال کیا ہی نہیں ہے تو 0 نمبر دیے جاتے ہیں۔

(i) مومن نے چار صحیح اور چھ غلط سوال کیے، اس کا اسکور کیا ہوگا؟

(ii) ریشماں نے پانچ صحیح اور پانچ غلط سوال کیے، اس کا اسکور کیا ہوگا؟

(iii) جنا نے کل سات سوال کیے جس میں دو صحیح اور پانچ غلط ہیں، اس کا اسکور کیا ہے؟

8- ایک سیمنٹ کی کمپنی ہر سفید سیمنٹ کی بوری بیچنے پر 8، نفع اور ہر سرمئی سیمنٹ کی بوری بیچنے پر 5، کا نقصان اٹھاتی ہے۔

(a) کمپنی نے ایک مہینے میں 3,000 بوریاں سفید سیمنٹ کی اور 5,000 بوریاں سرمئی سیمنٹ کی بیچیں۔ اس کا کل نفع یا نقصان

بتائیے؟

(b) اگر کمپنی 6,400 بوریاں سرمئی سیمنٹ کی بیچتی ہے تو اس کو کتنی بوریاں سفید سیمنٹ کی بیچنی ہوں گی تاکہ اس کو نہ تو کوئی نفع ہو

اور نہ ہی نقصان ہو۔

9- دیے گئے بیانات کو صحیح بنانے کے لیے خالی جگہوں کو بھریے

(a) $(-3) \times \underline{\hspace{2cm}} = 27$

(b) $5 \times \underline{\hspace{2cm}} = -35$

(c) $\underline{\hspace{2cm}} \times (-8) = -56$

(d) $\underline{\hspace{2cm}} \times (-12) = 132$

1.6 صحیح اعداد کی تقسیم Division of Integers

ہم جانتے ہیں کہ تقسیم، ضرب کا برعکس عمل ہے۔ آئیے مکمل اعداد کے لیے ایک مثال پر غور کریں۔

$$3 \times 5 = 15 \quad \text{کیونکہ}$$

$$15 \div 3 = 5 \quad \text{اور} \quad 15 \div 5 = 3 \quad \text{اس لیے}$$

$$4 \times 3 = 12 \quad \text{اسی طرح} \quad 12 \div 3 = 4 \quad \text{اور} \quad 12 \div 4 = 3 \quad \text{ہوگا}$$

ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکمل اعداد کی ضرب کے ہر بیان کے لیے ہم دو تقسیم کے بیانات دے سکتے ہیں۔

کیا آپ صحیح اعداد کی ضرب کے بیان اور اس کے لیے تقسیم کے بیانات لکھ سکتے ہیں؟

• درج ذیل کا مشاہدہ کیجیے اور اس کو مکمل بھی کیجیے:

ضرب کے بیانات	ہم آہستگی تقسیمی بیانات
$2 \times (-6) = (-12)$	$(-12) \div (-6) = 2$, $(-12) \div 2 = (-6)$
$(-4) \times 5 = (-20)$	$(-20) \div (5) = (-4)$, $(-20) \div (-4) = 5$
$(-8) \times (-9) = 72$	$72 \div \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$, $72 \div \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$
$(-3) \times (-7) = \underline{\hspace{1cm}}$	$\underline{\hspace{1cm}} \div (-3) = \underline{\hspace{1cm}}$, $\underline{\hspace{1cm}}$
$(-8) \times 4 = \underline{\hspace{1cm}}$	$\underline{\hspace{1cm}}$, $\underline{\hspace{1cm}}$
$5 \times (-9) = \underline{\hspace{1cm}}$	$\underline{\hspace{1cm}}$, $\underline{\hspace{1cm}}$
$(-10) \times (-5) = \underline{\hspace{1cm}}$	$\underline{\hspace{1cm}}$, $\underline{\hspace{1cm}}$

اوپر دیے گئے بیانات سے ہم نے مشاہدہ کیا کہ:

$$(-12) \div 2 = \quad (-6)$$

$$(-20) \div (5) = \quad (-4)$$

$$(-32) \div 4 = \quad -8$$

$$(-45) \div 5 = \quad -9$$

کوشش کیجیے:

معلوم کیجیے:

$$(a) (-100) \div 5 \quad (b) (-81) \div 9$$

$$(c) (-75) \div 5 \quad (d) (-32) \div 2$$

ہم نے مشاہدہ کیا کہ جب ہم ایک منفی صحیح عدد کو ایک مثبت صحیح عدد سے تقسیم کرتے ہیں تو ہم ان اعداد کو مکمل اعداد کی طرح ہی تقسیم کرتے ہیں اور خارج قسمت سے پہلے (-) کا نشان لگا دیتے ہیں۔ لہذا ہم کو ایک منفی صحیح عدد حاصل ہوتا ہے۔

$$72 \div (-8) = -9 \quad \text{and}$$

$$50 \div (-10) = -5$$

$$72 \div (-9) = -8$$

$$50 \div (-5) = -10$$

کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ
 $(-48) \div 8 = 48 \div (-8)?$
 آؤ چیک کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ
 $(-48) \div 8 = -6$
 اور $48 \div (-8) = -6$
 اس لیے $(-48) \div 8 = 48 \div (-8)$
 چیک کیجیے اس کے لیے
 (i) $90 \div (-45)$ and $(-90) \div 45$
 (ii) $(-136) \div 4$ and $136 \div (-4)$

اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم ایک مثبت صحیح عدد کو ایک منفی صحیح عدد سے تقسیم کرتے ہیں تو ہم پہلے ان کو مکمل اعداد کی طرح ہی تقسیم کرتے ہیں اور پھر خارج قسمت سے پہلے ایک منفی نشان لگا دیتے ہیں۔ یعنی ہم کو ایک منفی صحیح عدد حاصل ہوتا ہے۔
 عام طور پر کوئی بھی دو مثبت صحیح اعداد a اور b کے لیے

$$b \neq 0 \text{ جہاں } a \div (-b) = (-a) \div b$$

کوشش کیجیے:

معلوم کیجیے

$$(a) 125 \div (-25) \quad (b) 80 \div (-5) \quad (c) 64 \div (-16)$$



اور آخر میں ہم یہ بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ

$$(-12) \div (-6) = 2; \quad (-20) \div (-4) = 5; \quad (-32) \div (-8) = 4; \quad (-45) \div (-9) = 5$$

اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم ایک منفی صحیح عدد کو ایک منفی صحیح عدد سے تقسیم کرتے ہیں تو ہم پہلے ان کو مکمل اعداد کی طرح ہی تقسیم کرتے ہیں تو ہم پہلے ان کو مکمل اعداد کی طرح ہی تقسیم کرتے ہیں اور پھر خارج قسمت سے پہلے ایک مثبت نشان (+) لگا دیتے ہیں۔ یعنی ہم کو ایک مثبت صحیح عدد حاصل ہوتا ہے۔

عام طور پر کسی دو مثبت صحیح اعداد a اور b کے لیے

$$0 \neq b \text{ جہاں } (-a) \div (-b) = a \div b$$

کوشش کیجیے:

$$(a) (-36) \div (-4) \quad (b) (-201) \div (-3) \quad (c) (-325) \div (-13)$$



1.7 صحیح اعداد کی تقسیم کی خصوصیات Properties Of Division Of Integers

درج ذیل جدول کا مشاہدہ کیجیے اور اس کو مکمل کیجیے:

بیانات	حاصل کردہ نتائج	بیانات	حاصل کردہ نتائج
$(-8) \div (-4) = 2$	جواب ایک صحیح عدد ہے	$(-8) \div 3 = \frac{-8}{3}$	
$(-4) \div (-8) = \frac{-4}{-8}$	جواب ایک صحیح عدد نہیں ہے	$3 \div (-8) = \frac{3}{-8}$	

آپ کا مشاہدہ کیا ہے؟ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ صحیح اعداد کی تقسیم بندشی خصوصیت نہیں رکھتی ہے۔
 پانچ اور مثالیں لے کر اس کو ثابت کیجیے۔

- ہم جانتے ہیں کہ مکمل اعداد کی تقسیم تقابلی خصوصیت نہیں رکھتی ہے۔ اس کو صحیح اعداد کے لیے بھی جانچیں۔
آپ جدول سے دیکھ سکتے ہیں کہ $(-8) \div (-4) \neq (-4) \div (-8)$
کیا $3 \div (-9)$ اور $(-9) \div 3$ ایک سے ہیں؟
کیا $(-6) \div (-30)$ اور $(-30) \div (-6)$ ایک سے ہیں؟
کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح اعداد کی تقسیم تقابلی خصوصیت رکھتی ہے؟ نہیں۔
صحیح اعداد کے پانچ اور جوڑے لے کر آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔
- مکمل اعداد کی طرح ہی کسی بھی صحیح عدد کو صفر سے تقسیم کرنا بے معنی ہے اور اگر صفر کو صفر کے علاوہ کسی دوسرے صحیح عدد سے تقسیم کرنے پر صفر ہی حاصل ہوتا ہے، یعنی کسی بھی صحیح عدد a کے لیے $a \div 0$ بے معنی ہے لیکن $0 \div a = 0$ جہاں $a \neq 0$
- جب ہم کسی مکمل عدد کو 1 سے تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں وہ مکمل عدد حاصل ہوتا ہے۔ ذرا جانچیں تو کیا یہ بات منفی صحیح اعداد کے لیے بھی درست ہے۔
درج ذیل کا مشاہدہ کیجیے:

$$(-8) \div 1 = (-8)$$

$$(-11) \div 1 = -11$$

$$(-13) \div 1 = -13$$

$$(-25) \div 1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(-37) \div 1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(-48) \div 1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی منفی عدد کو جب 1 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو وہی صحیح عدد حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی صحیح عدد کو 1 سے تقسیم کرنے پر وہی صحیح عدد حاصل ہوتا ہے۔
عام طور پر کسی صحیح عدد a کے لیے

$$a \div 1 = a$$

- اگر ہم کسی صحیح عدد کو (-1) سے تقسیم کریں تو کیا ہوگا؟ درج ذیل جدول کو مکمل کیجیے

$$(-8) \div (-1) = 8$$

$$11 \div (-1) = -11$$

$$13 \div (-1) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(-25) \div (-1) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(-37) \div (-1) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$-48 \div (-1) = \underline{\hspace{2cm}}$$

آپ کا مشاہدہ کیا ہے؟

- ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی صحیح عدد کو (-1) سے تقسیم کرنے پر وہی صحیح عدد حاصل نہیں ہوتا ہے۔
کیا ہم کہہ سکتے ہیں $(-16) \div (-2)$ اور $[4 \div (-2)] \div (-16)$ دونوں ایک ہی ہیں؟
ہم جانتے ہیں کہ $(-16) \div (-2) = 8$ اور $[4 \div (-2)] \div (-16) = 8$
اس لیے $(-16) \div (-2) \neq [4 \div (-2)] \div (-16)$

کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح اعداد کی تقسیم تلازمی خصوصیت رکھتی ہے؟ نہیں۔
آپ اپنے سے کوئی پانچ مثالیں لے کر اس کو ثابت کیجیے۔

مثال 6 ایک جانچ میں ہر صحیح جواب کے لیے (+5) اور ہر غلط جواب کے لیے (-2) نمبر دیے گئے۔

- (i) رادھیکا نے تمام سوالوں کے جواب دیے اور اس کو 30 نمبر ملے جب کہ اس کے دس جواب صحیح تھے۔
(ii) جے نے بھی سارے سوالوں کے جواب دیے اور اس کو (-12) نمبر ملے جب کہ اس کے 4 جواب صحیح تھے۔

ان لوگوں نے کتنے سوال غلط کیے؟

حل



(i) ایک صحیح سوال کے لیے نمبر ملے $5 =$

اس لیے 10 صحیح سوالوں کے لیے نمبر ملے $5 \times 10 = 50$

رادھیکا کا اسکور ہے $30 =$

غلط جوابوں کے لیے نمبر ملے $30 - 50 = -20$

ایک غلط سوال کے لیے نمبر ملے $(-2) =$

اس لیے کل غلط سوالوں کی تعداد $(-20) \div (-2) = 10$

(ii) 4 صحیح جوابوں کے لیے نمبر ملے $5 \times 4 = 20$

جے کا اسکور ہے $-12 =$

غلط جوابوں کے لیے نمبر ملے $-12 - 20 = -32$

ایک غلط جواب کے لیے نمبر $(-2) =$

اس لیے کل غلط سوالوں کی تعداد $(-32) \div (-2) = 16$

مثال 7 ایک دکاندار ایک پن پیچ کر 1 نفع کماتا ہے جب کہ اپنے پرانے رکھے سامان کی ایک پنسل بیچنے سے اس کو 40 پیسے کا نقصان ہوتا ہے۔

- (i) ایک مہینے میں اس کو کل 5 روپے کا نقصان ہوا۔ اس میں اس نے 45 پن پیچے۔ بتائیے اس نے اس مہینے میں کتنی پنسلیں بیچیں۔
(ii) اگلے مہینے میں اس کو نہ تو کوئی نفع ہوا اور نہ ہی کوئی نقصان ہوا۔ اگر اس نے 70 پن بیچے تو اس نے کتنی پنسلیں بیچیں؟

حل

(i) ایک پن بیچنے سے کمایا گیا نفع $= 1$

45 پن بیچنے پر کمایا گیا نفع $= 45$



اس کو ہم $+45$ سے ظاہر کریں گے
 کل سہا گیا نقصان $= 5$ ، اس کو ہم -5 سے ظاہر کریں گے۔
 کمایا گیا نفع + سہا گیا نقصان = کل نقصان
 اس لیے سہا گیا نقصان = کل نقصان - کمایا گیا نفع

$$= (-5 - 45)$$

$$= (-50)$$

$$= 5000 \text{ پیسے}$$

 ایک پنسل بیچنے سے سہا گیا نقصان $= 40$ پیسے، جس کو ہم -40 پیسے سے ظاہر کریں گے۔
 اس لیے بیچی گئی پنسلوں کی تعداد $= 125 \div (-40) = (-5000)$
 اگلے مہینے میں نہ کوئی نفع ہوا اور نہ ہی نقصان اس لیے کمایا گیا نفع + سہا گیا نقصان $= 0$
 یعنی کمایا گیا نفع = - سہا گیا نقصان
 اب 70 پنیں بیچنے سے کمایا گیا نفع $= 70$
 اس لیے پنسلوں کو بیچنے سے سہا گیا نقصان $= 70$ جس کو ہم -70 یا $-7,000$ پیسے سے ظاہر کریں گے۔
 بیچی گئی کل پنسلوں کی تعداد $= 175 \div (-40) = (-7000)$ پنسلیں

مشق 1.4

1- درج ذیل کی قیمت معلوم کیجیے

- (a) $(-30) \div 10$ (b) $50 \div (-5)$ (c) $(-36) \div (-9)$
 (d) $(-49) \div (49)$ (e) $13 \div [(-2) + 1]$ (f) $0 \div (-12)$
 (g) $(-31) \div [(-30) + (-1)]$ (h) $[(-36) \div 12] \div 3$ (i) $[(-6) + 5] \div [(-2) + 1]$



2- a ، b اور c کی درج ذیل قیمتوں کے لیے $a \div (b + c) \neq (a \div b) + (a \div c)$ کی جانچ کیجیے

- (a) $a = 12, b = -4, c = 2$ (b) $a = (-10), b = 1, c = 1$

3- خالی جگہیں بھریے

- (a) $369 \div \underline{\hspace{2cm}} = 369$ (b) $(-75) \div \underline{\hspace{2cm}} = -1$
 (c) $(-206) \div \underline{\hspace{2cm}} = 1$ (d) $-87 \div \underline{\hspace{2cm}} = 87$
 (e) $\underline{\hspace{2cm}} \div 1 = -87$ (f) $\underline{\hspace{2cm}} \div 48 = -1$

(g) $20 \div \underline{\hspace{1cm}} = -2$

(h) $\underline{\hspace{1cm}} \div (4) = -3$

4- کوئی پانچ صحیح اعداد کے جوڑے (a,b) اس طرح لکھیے کہ $a \div b = -3$ ہو۔ ایسا ایک جوڑا (6, -2) ہے کیونکہ $6 \div (-2) = (-3)$

5- 12 بجے دوپہر کا درجہ حرارت صفر سے 10°C زیادہ ہے۔ اگر یہ آدھی رات تک 2°C فی گھنٹے کی شرح سے گھٹتا ہے۔ صفر سے 8°C کم درجہ حرارت کس وقت ہوگا؟ آدھی رات کو درجہ حرارت کیا ہوگا؟

6- کلاس کی ایک جانچ میں صحیح جواب کے لیے (+3) نمبر، ہر غلط جواب کے لیے (-2) نمبر دیے گئے ہیں۔ اگر کوئی سوال حل نہیں کیا گیا ہے تو اس کے کچھ بھی نمبر نہیں دیے گئے ہیں۔ (i) رادھیکا کو 20 نمبر ملے ہیں۔ اگر اس کے 12 جواب صحیح ہیں تو اس کے غلط جوابات کی تعداد کیا ہے؟ (ii) مونی کو اس جانچ میں 5- نمبر ملے جب کہ اس کے 7 جواب صحیح تھے۔ اس نے کتنے غلط جواب دیے ہیں؟

7- ایک دافع مشین ایک کان میں 6 میٹر فی منٹ کی رفتار سے نیچے جاتی ہے اور سطح زمین سے 10 میٹر کی اونچائی سے اس مشین نے جانا شروع کیا تو 350 میٹر کی گہرائی تک پہنچنے میں اس کو کتنی دیر لگے گی۔

ہم نے کیا سیکھا؟

- 1- مکمل اعداد اور ان کے منفی اعداد کو ملا کر بننے والا بڑا مجموعہ صحیح اعداد ہوتے ہیں۔ اس کا تعارف چھٹی کلاس میں کرایا جا چکا ہے۔
 - 2- آپ پچھلی جماعت میں عددی خط پر صحیح اعداد کا اظہار اور ان کی جمع و تفریق سیکھ چکے ہیں۔
 - 3- اب ہم نے جمع اور تفریق کی کچھ خصوصیات کے بارے میں پڑھا ہے۔
- (a) صحیح اعداد کی جمع اور تفریق دونوں ہی بندشی خصوصیت رکھتی ہیں۔ یعنی $a+b$ اور $a-b$ دونوں صحیح اعداد ہیں۔ جہاں a اور b صحیح اعداد ہیں۔
- (b) صحیح اعداد کی جمع تقابلی خصوصیت رکھتی ہے۔ یعنی سبھی صحیح اعداد a اور b کے لیے $a+b = b+a$
- (c) صحیح اعداد کی جمع تلازمی خصوصیت رکھتی ہے۔ یعنی سبھی صحیح اعداد a ، b اور c کے لیے $(a+b)+c = a+(b+c)$
- (d) صحیح اعداد کا جمعی تماشلہ صحیح عدد 0 ہے۔ یعنی کسی بھی صحیح عدد a کے لیے $a+0 = 0+a = a$
- 4- ہم نے پڑھا ہے کہ صحیح اعداد کی ضرب کیسے ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ ایک مثبت اور ایک منفی صحیح عدد کا حاصل ضرب ایک منفی صحیح عدد ہوتا ہے، جب کہ دو منفی صحیح اعداد کا حاصل ضرب ایک مثبت صحیح عدد ہے۔ مثال کے طور پر $-2 \times 7 = -14$ اور $-3 \times -8 = 24$
- 5- ضرب کیے جانے والے منفی صحیح اعداد کی تعداد اگر جفت ہے تو حاصل ضرب مثبت ہوگا اور اگر یہ تعداد طاق ہے تو حاصل ضرب منفی ہوگا۔
- 6- صحیح اعداد کی ضرب کی بھی کچھ خصوصیات ہیں۔
- (a) صحیح اعداد کی ضرب بندشی خصوصیت رکھتی ہے، یعنی کوئی بھی دو صحیح اعداد a اور b کے لیے $a \times b$ بھی ایک صحیح عدد ہے۔

- (b) صحیح اعداد کی ضرب تفریلی خصوصیت رکھتی ہے۔ یعنی کوئی بھی دو صحیح اعداد a اور b کے لیے $a \times b = b \times a$ ہے۔
- (c) صحیح عدد 1، صحیح اعداد کا ضربی نمائندہ ہے۔ یعنی کسی بھی صحیح عدد a کے لیے $1 \times a = a \times 1 = a$ ہے
- (d) صحیح اعداد کی ضرب تلازمی خصوصیت بھی رکھتی ہے۔ یعنی کسی بھی تین صحیح اعداد a ، b اور c کے لیے $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
- 7- صحیح اعداد کی جمع اور ضرب کی ایک اور خصوصیت بھی ہے جس کو تقسیمی خصوصیت کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی تین صحیح اعداد a ، b اور c کے لیے $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$
- 8- صحیح اعداد کی جمع اور ضرب کے تحت تفریلی، تلازمی اور تقسیمی خصوصیات ہمارے حساب کو آسان کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔
- 9- ہم نے صحیح اعداد کی تقسیم بھی سیکھی۔ ہم نے پایا کہ
- (a) جب ایک مثبت صحیح عدد کو کسی منفی صحیح عدد سے تقسیم کیا جاتا ہے تو خارج قسمت ایک منفی عدد آتا ہے اور اس کا لٹا بھی
- (b) ایک منفی صحیح عدد کو کسی منفی صحیح عدد سے تقسیم کرنے پر خارج قسمت مثبت صحیح عدد آتا ہے۔
- 10- کسی بھی صحیح عدد a کے لیے
- (a) $a \div 0$ بے معنی ہے
- (b) $a \div 1 = a$

